

دین اور صحت

ڈاکٹر عطاء الرحمن

جسمانی، نفسیاتی اور اجتماعی پہلوؤں سے انسان کا سلامت ہونا، یعنی بیماری اور معدودی کا نہ ہونا صحت ہے۔ تدرستی دراصل، بدن میں ہر چیز کے توازن کا نام ہے۔ صحت کی حفاظت اور اس میں ترقی کی مدد ابیر اور بیماری کا علاج خود صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ این رشد، عضو کے طبعی عمل کے انجام دینے اور طبعی اثر کو قبول کرنے کو صحت کہتے ہیں۔ این نفس کا کہنا ہے کہ بدن درست اعمال انجام دے، یہ صحت ہے۔

اعتدال صحت کی بنیاد ہے۔ بدن اور جسم میں پائے جانے والے عناصر دراصل خوارک میں جواہر انمکیات، لحمیات، چکنائی اور نشاستہ شامل ہیں، ان کا اعتدال اور توازن صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ رحمن میں ہے: **الَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ**^۱ (۸:۵۵) ”میزان میں خلل نہ ڈالو“۔ گویا توازن کو خراب مت کرو۔ جسم کا ہر ذرہ کائنات کے توازن کے لیے اساس ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوَّكَ فَعَدَّلَكَ**^۲ (۷:۸۲) ”اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھ کو بنایا، برابر کیا اور اعتدال عطا کیا“۔ سورہ آتین میں ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**^۳ (۹۵:۲) ”بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا“۔ سورہ شمس میں آتا ہے: **وَنَفْسٌ وَمَا سَوْهَا**^۴ (۹۱:۷) ”جان کی قسم ہے اور اسے تناسب دینے والے کی قسم“۔ سورہ بقرہ میں قیادت کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت اس لیے چاگیا ہے کہ وَرَادَةَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ^۵ (۲۲۷:۲)، یعنی وہ تم پر علمی اور جسمانی فضیلت رکھتا ہے۔ این سینا فرماتے ہیں اعتدال انسان کی اس طبعی حالت کا نام ہے جو دو حدود کے درمیان (افراط و تفریط) کا شکار نہ ہو (کتاب القانون، ص ۳)۔ حضور نے قوی مومن کو

ضعیف مومن سے افضل قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو کیونکہ ایمان کے بعد صحت اور عافیت سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی۔ (ابن ماجہ) بنی کریمؐ نے بعض بیماریوں کا علاج بھی تجویز کیا۔ سنن ابو داؤد میں اسامہ بن شریکؐ سے روایت ہے، آپؐ نے فرمایا کہ علاج کرو۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ہاں، اے اللہ کے بندو علاج کرایا کرو۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اُتاری مگر اس کی شفا ضرور تازل کر دی۔ جانے والا اسے جان لیتا ہے اور جاہل اس سے بے خبر رہتا ہے۔ (مسند احمد) امام ترمذی نے دوا اور پرہیز کے بارے میں ابو حیانؓ سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: یہ بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے طاعون عمواس میں لشکر کے افراد کو وہیں پر بکھر جانے کے لیے تجویز دی اور فرمایا کہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف ہی پلتے ہیں۔ جب انھیں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ بیمار و بابا کی جگہ سے نکلے اور نہ کوئی وہاں داخل ہو۔ آپؐ نے مریض کی عیادت کو واجب قرار دیا اور مرض پر صبر کرنے کی تلقین کی۔ مرض کی تکلیف پر گناہوں سے خلاصی کی بشارت دی اور مرض کی شفایابی کے لیے کئی قسم کی دعائیں سکھائیں۔

اہم ترین فکر زندگی کا توازن ہے، نیند میں، غذا میں، رویے میں، روشن زندگی میں۔ سورہ رحمٰن میں فرمایا گیا: ”آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تو لو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو“ (۵۵:۶-۹)۔ سورہ فرقان میں فرمایا: وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُحُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوُنَا (۲۵:۲۳) اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا: جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَ سَطَا (البقرہ ۲: ۱۳۳) ”اور ہم نے تم کو امت وسط بنا�ا۔“ خرچ کرنے میں بھی حکم ہے: وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (الفرقان ۲۵: ۶۷) ”اور جب (رحمٰن کے بندے) خرچ کرتے ہیں تو نہ اسraf کرتے ہیں اور نہ کجھی، ان کے درمیان رہتے ہیں۔“ توازن اگر بگڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اہم پہلو متوازن غذا کا بھی ہے۔ نفیاتی طور پر جذبات میں توازن خوف اور غمّتے کی حالت پر قابو پانا ہے۔ یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ ایک فرد کی غیر متوازن زندگی پوری کائنات پر اثر انداز ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ انفرادی،

خاندانی اور عائلوں زندگی میں اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں لیکن یہاں شخص کے معاشرتی اور بین الاقوامی اثرات ہی نہیں بلکہ انسانی اور زمینی اثرات سے آگے بڑھ کر کائناتی اثرات ہیں۔

اسلام کا ایک اہم اصول لا ضرر والا ضرار ہے۔ انسان کے پاس اس کا اپنا بدن امانت ہے۔ اس کو فحصان پہنچانا اور دوسرا فرد کو یا معاشرے کو فحصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ خود کشی اسی لیے حرام ہے۔ اپنا مال ضائع کرنا اور بُرے اعمال کے ذریعے اپنی عزت کو پامال کرنا بھی جائز نہیں۔ ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ”جس نے مومن کو فحصان پہنچایا، اس کے خلاف سازش کی، اس پر لعنت ہے“ (ابن ماجہ، ابو داؤد)۔ آپؐ کا ارشاد ہے جس نے کسی مومن کو فحصان پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو فحصان پہنچائے گا (ترمذی)۔ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ (النساء ۲۹:۳)

”تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔“ (جان) ذات کا تحفظ فرض ہے۔ خاندان کے تحفظ کی بات بھی کی گئی ہے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے، تیری بیوی کا تجوہ پر حق ہے، تیرے بچوں کا تجوہ پر حق ہے۔ اس لیے حق دار کو اس کا حق دو۔ (بخاری)

اگر پرہیز اور امراض سے بچاؤ کے علاوہ حفظان صحت کے جو اصول اسلام اور طب میں مشترک ہیں، ان پر عمل کیا جائے تو عملی طور پر علاج کی نوبت ہی نہ آئے۔ حیرت ناک حد تک اسلامی تعلیمات واقعی زندگی بخش ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ صحت ہے اور فرست ہے (بخاری)۔ کسی کو ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی۔ (ابن ماجہ)

حفظان صحت کے اصول

حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں: ۱- عادات ۲- جسمانی ساخت اور پرداخت ۳- ذہنی صحت ۴- معاشرتی صحت ۵- طبعی صحت ۶- لباس اور ماحولیاتی صحت۔

● عادات: دو چیزیں عادتاً بہت اہم ہیں: نیند اور خوراک۔ نیند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (النباء ۷۸:۱۰) ”ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا“۔ اور خوراکوں کے بارے میں فرمایا: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرہ ۱۷۲:۲) ”ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمھیں بخشیں انھیں کھاؤ“۔ سورہ مائدہ میں فرمایا: ”حلال کو حرام نہ کرو“ (۵:۸۷)

● جسمانی ساخت: جسمانی ساخت اور پرداخت کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ کُلُوْا وَ اشْرِبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا (اعراف: ۳۱) ”کھاؤ اور پوچھ اسراف نہ کرو“ (بسیار خوری اسراف ہے)۔ ذیان بیٹھ، ہائی بلڈ پریشر، دل کی شریانوں کی بیماری، درد سینہ، انجماد خون، فائج صرف اور صرف بے ترتیب غذا کے سبب سے ہیں۔ یوں معدہ اور ہاضمہ دو فوں کا صحت سے گرا تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا: ”کسی آدم زاد نے پیٹ سے زیادہ برابتہ نہیں بھرا۔ انسان کے لیے چند لفے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں“۔ اندر ورنی جسمانی صحت کا گہر اعلق خوراک سے ہے۔ مقدم بن سعدی کرب سے ترمذی میں روایت ہے: ”اگر نفس غلبہ پالے تو ۳/۴ کھانے کے لیے ۳/۴ پینے کے لیے اور ۳/۳ انسان لینے کے لیے چھوڑنا چاہیے“۔

● ذہنی صحت: انسان کے امراض کا ۳۳ فی صد ذہنی امراض ہیں۔ انسان کے پاس خوف اور غم کا علاج نہیں سوائے ایمان کے۔ خوف اور غم کیا ہیں؟ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے اور جب چھین لی جائیں تو غم شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے: اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْيَ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى إِلَيْهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۳۸:۲) ”تم سب زمین پر اترے تو تمہارے پاس میری بدایت آئے گی، جوان کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہو گا نہ غم“۔

خواہشات انسان کی زندگی کے پورے نظام کو بدل دیتی ہیں۔ مال و جاه اور سیم وزران کے مختلف نام ہیں۔ منصب، بیوی بچے اور اقتدار ان سب کی خواہش رہتی ہے لیکن یہ نعمت تباہ ہے جب یہ بدایت کے ساتھ ہوں۔ جذبات میں حد سے پناہ کا سورہ فلق میں ذکر آتا ہے کہ مجھے حد کرنے والے کے شر سے محفوظ فرم۔ غصے کے لیے احکام ہیں: وَ الْكُظُمِينَ الْغَيْظَ (آل عمرن: ۳) ”اور وہ اپنے غیظ و غصب پر قابو پاتے ہیں“۔

سکون اور طمانتیت قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَلَا يَذِكُرِ اللَّهُ تَطْمِئْنُ الْقُلُوبُ (الرعد: ۲۸:۱۳) ”لوگوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے“۔ نفیاتی امراض سے نجات کا ایک بڑا ذریعہ معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ مرض، مالی یا جانی نقصان، خوف، بھوک میں انسان صبر کرے اور اللہ کا حکم اور اس کا فیصلہ قرار دے۔ لوگوں کے رویے انسان کو تکلیف دیتے

ہیں۔ غلط رویوں کے لیے دین میں کوئی اجازت نہیں، مثلاً منافقت، تکبیر، بے اعتنائی، نفرت، حسد، بعض، تعصّب، تمثیل، خلافت، افتراق، ظلم، تکبیر، بداخلاتی۔۔۔ یہ تمام منفی رویے ہیں۔ سورہ جراث میں تمثیل، غیبت، بدطفی، تحریر، عیب جوئی کی حرمت کا حکم ہے۔ اسلام نظریاتی بھائی چارے کو قائم کرنے حکم دیتا ہے اور تقبیبات پر منیٰ مملکتوں کے قیام کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دیتا ہے۔

● معاشرتی صحت: انسان کی اپنی صحت اور ارادگرد کے ماحول میں خاندان اور اہل خانہ کی صحت بہت اہم ہے۔ حضرت عثمانؓ زوجہ کی علالت کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ بجاے خود ایک فقیہی اصول کی نشان دہی کرتا ہے۔ قانون عملی اور حقیقی اصولوں پر ہی تشکیل دیا جاتا ہے۔ صحت خود ایک نعمت ہے۔ ہاتھ و ہونا، غسل، وضو، مسواک، ناخن اور بالوں کا ترشوانا، لکھنی اور انگلیوں میں خالل، نماز کے دوران قیام، رکوع اور سجود نماز کے لیے آنا جانا عبادت بھی ہے اور صحت بھی۔

● جنسی صحت اور تعلقات: مخصوص اعضا کی صفائی دینی مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہؓ خواتین سے فرماتی ہیں کہ تم اپنے شوہروں کو ہدایت کرو کہ پانی سے صفائی کریں کیونکہ مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسولؐ ایسا ہی کرتے تھے (ترمذی)۔ شادی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سورہ روم (آیت ۲۱) میں ہے: ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“ سورہ نساء میں بیوی کا ذکر اس طرح آیا ہے: ”اے انسانو! تمہارے رب نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی۔“ (النساء: ۲۳)۔ سورہ رعد (۳۸: ۱۳) میں فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولؐ بھیج ان کے بیوی بچے تھے۔ گویا شادی رسولوں اور انہیا کی سنت ہے۔ شادی صرف انفرادی فرض نہیں بلکہ اجتماعی فریضہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو۔“ (۳۲: ۲۳)۔ تفصیلی تعلیمات میں بیویوں کی صفات کا ذکر ہے۔

اسی طرح نئے سے بچنا ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدہ: ۵۰)

”شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پر ہیز کرو،

امید ہے کہ تصحیں فلاح نصیب ہوگی۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چودہ سو سال بعد بھی امت ان لعنتوں سے محفوظ ہے اور ان بیماریوں سے جو شراب نوشی اور نشوونے سے پیدا ہوتی ہیں۔

● طبعی صحت: حفظان صحت کا طبعی پہلو سر اسرد اتی اور انفرادی ہے کہ انسان اپنے بدن کی صفائی کرے۔ بدن کی صفائی کے ضمن میں قرآن فرماتا ہے: وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ۝ وَالرُّجَزْ فَاهْجُرْ۝ (المدثر: ۵-۷) ”اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔“ ہر قسم کی گندگی سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا: ”صفائی نصف ایمان ہے۔“ اسلام نے یہ ہدایات کیوں دی ہیں؟ یہ ہدایات اس لیے دی گئی ہیں تاکہ صحت اچھی رہے۔ غذا اور خوراک کا جسم کے صحت مند ہونے سے گہرا تعلق ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے: ”اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے اور فوائد بھی،“ (۱۶:۵)۔ آیت ۱۲ میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا“ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو سخن کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تروتازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ اسی طرح آیت ۱۱ میں آتا ہے: يُنِيبُ لَكُمْ بِالرَّزْعِ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ طَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ”وہ اس پانی کے ذریعے سے تمہاری کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔“ آیت ۲۶ میں فرمایا: وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً طَسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرِثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغاً لِلشَّرِيرِينَ ۝ ”اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوب اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تصحیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوش گوار ہے۔“ آیت ۲۹ میں شہد کا ذکر کیا ہے: ”ان مکھیوں سے مختلف رنگوں کا مشروب ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔“ اُم ایمن سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے چحنے ہوئے آئے کو واپس کر کے بھس میں ملانے کے لیے فرمایا اور پھر روٹی پکانے کا فرمایا۔ کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ یہ سارے احکامات صحت سے متعلق ہیں۔

● لباس اور ماحولیاتی صحت: حفظان صحت کے اصولوں میں ماحول کی صفائی اور

پانی کی حفاظت کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: تم میں سے کوئی ٹھیکرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے (این ماجہ)۔ لعنت کی تین باتوں سے، پرہیز کی روایت ابو داؤد میں معاذ بن جبلؓ سے ہے کہ پانی کے مقامات، گزرگاہ کے درمیان اور سائیے میں رفع حاجت نہ کرو۔ یہ تمام احکامات علاج نہیں، مرض سے بچنے کی اعلیٰ ترین تداریخ ہیں۔ اس لیے کہ مرض سے بچنے کی تداریخ بھی دین کا حصہ ہیں بلکہ ترجیحاً بہت اہم ہیں۔ درخت اور پودے لگانے کو صدقہ قرار دیا گیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ جو بخربز میں کوآباد کرے وہ اس کی ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت جابرؓ سے اور ابو داؤد میں بھی ہے جس نے یہی کاٹی (بلا جواز) اللہ اس کے سر کو دوزخ میں نیچا کرے گا۔ حضرت زبیرؓ سے مسند احمد اور ابو داؤد میں روایت ہے، آپؐ نے فرمایا: مرنج وادی کا شکار اور پودے حرام ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ جو درخت لگا رہا ہے اور دیکھنے کے قیامت آگئی ہے تو درخت لگا دے۔ قرآن میں ماحول کوتباہ کرنے والا بڑا مشن وہ ہے جو کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوفساد پسند نہیں۔ ارشادِ بانی ہے: ”جب اُسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کوتباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا“۔ (البقرہ ۲۰۵:۲)

اس طرح گھر کی صفائی، برتوں کی صفائی اور گھر کے ماحول کی صفائی بھی فرض ہے۔ خوب صورت محل دیکھ کر ہی تو ملکہ سبانے اسلام قبول کیا۔ گھر کی تعمیر اور صفائی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس طرح کہ خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے ابراہیم سے وعدہ لیا کہ ”میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو“۔ (البقرہ ۱۲۵:۲)

بدن، لباس، غذا اور ماحول کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ یہ واضح ہے کہ انسان کی کسی اہم ضرورت کی وجہ سے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سب صحت کے لیے علم فقہ میں اس بنیاد پر ہیں اور اولیت رکھتے ہیں کہ انسانی صحت کا دار و مدار ان اہم اصولوں پر ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے، کہ صحت مقدم ہے، اور قیامت تک کے لیے صحت سے متعلق ایجادات، دوائیں، پرہیز یا شہروں کی منصوبہ بنی یا مملکتوں کے انتظامی ڈھانچوں کے جو بھی احکامات ہوں گے، ان کو مقاصد الشریعہ کے زمرے میں شامل رکھا جائے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ پولیو کے قدرے بھی بیماری

سے بچانے کے لیے ہیں۔ اس پر ان احکامات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان سارے احکامات سے جب پتا چل گیا کہ انسانی زندگی کا تحفظ ہر چیز پر دینی لحاظ سے مقدم ہے، اور پھر زندگی کا انعام صحت پر ہے، اور اللہ کو بھی قویِ مومن پسند ہے تو پھر وہ ساری کاوش جو اس مقصد کے لیے ہو وہ باعثِ اجر و ثواب ہے۔

پولیو مہم: حقائق اور خدشات

پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا، سو اے نایجیریا، افغانستان اور پاکستان کے۔ اس کام میں رکاوٹ وہ بہت سے معاشرتی، سیاسی، انتظامی اور مذہبی سوالات ہیں جن کے جوابات کی واقعی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنے بہت امراض ہیں، اس ایک مرض کو ختم کرنے کے لیے امریکا اور پورا عالم کیوں کوشش کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی ملک کی دشمنی یا اسلام دشمنی کی وجہ سے مرض کے حوالے کرنا خود ایک گناہ ہے۔ امریکا اور عالم کفر کی اسلام دشمنی میں کوئی شک نہیں۔ اپنے بچوں کو پولیو زدہ کرنے سے ہم بھی ان کی پالیسی کو اختیار کرنے والے بن جائیں گے، حالانکہ اس کام کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ پولیو کے یہی قطرے ۵۳ اسلامی ممالک میں استعمال کر کے ہی وہاں کے مسلمان ڈاکٹروں، علماء اور حکمرانوں نے پولیو کا خاتمه کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے: ”کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹا دے۔ خبردار عدل کرو اور تقویٰ کے قریب ترین چیز عدل ہے“ (المائدہ ۸:۵)۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ان قطروں میں باخچہ پن کی دوا ہے۔ ان قطروں کی شیشی پر اجزا کے نام موجود نہیں۔ ہر دوا کی طرح اس پر زائد المیعاد ہونے کی تاریخ درج نہیں۔ کراچی کے ایک مائیکرو بیالوجسٹ ڈاکٹر عدیل نے ان اعتراضات کا لیبارٹری ٹسٹ کے ذریعے جائزہ لیا اور علمائے کرام کی موجودگی میں ان اعتراضات کو بے بنیاد ثابت کیا۔

اس مضمون میں علمائے اسلام آباد ڈیکٹریشن کا تذکرہ بھی ضروری ہے جس میں رقم شریک تھا۔ اس ڈیکٹریشن میں ڈرون حملوں کے سبب سے بے گناہ اور مخصوص بچوں کی شہادت کی نہ ملت جیسے امور پر بھی علمائے رائے دی اور تین باتوں کو واضح کیا کہ پولیو کی وکیسین محفوظ اور موثر ہے۔ تولیدی نظام کو نقسان پہنچانے والا کوئی جزا میں شامل نہیں اور اس میں کوئی مضر صحت اور حرماں چیز نہیں۔